


آؤ حساب کریں



گھوڑے اور ہاتھیوں کے درمیان کرکٹ کا فائنل میچ ہوا۔ گدھے کو رنوں کا حساب رکھنے کی ذمہ داری دی گئی۔ گھوڑے نے بہت تیز دوڑ کر بہت رن بنائیے۔ اس کے بعد ہاتھیوں کی باری تھی۔ ہاتھی تیزی سے دوڑنے پائے۔ ایک کے بعد ایک رن آؤٹ ہو گیے۔ ہاتھیوں کی جماعت کا کپشین بینگ کرنے آیا۔ سبھوں نے زور سے تالی بجائی۔ کپشین نے ایک کے بعد ایک ۸ عدد چھکے مارے۔ گدھا کس طرح رنوں کا حساب کریے گا؟

(۶+۶+۶+۶+۶+۶+۶) اسی طرح لکھ کر گدھے نے جمع کرنا شروع کیا۔ اب ہاتھیوں کے رنوں کا اعلان کیا جائے گا۔ سبھی سننے کے لیے بے قرار تھے۔ ہاتھیوں کا رن معلوم کرنے کے لیے سبھوں نے چاروں طرف سے گدھے کو گھیر لیا۔ بگلا، بندر، بھی دھکم دھکا ہو کر گدھے کے پاس پہنچ گے۔ وہ سب گدھے کو بولے اور گدھے کے بعد ہاتھیوں کے لیے جمع کرنا شروع کیا۔

۶ کو ۸ بار جمع کرنا جتنا ہوتا ہے ۶ کو ۸ کے ذریعہ ضرب کرنے سے اس کا حاصل ضرب اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر گدھا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا وہ یہ تو بڑا اچھا حل ہے۔ اب ہاتھی جتنا چھکا مارے میں تو جلد ہی حساب کر کے اعلان کر دوں گا۔

$$38 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6$$

$$38 = 8 \times 6 \quad \text{یا} \quad 6 \times 8 = 38$$

اب آپ بتائیں کتنا ہو گا؟

$$\dots \dots \dots 6 \text{ کا } 3 \text{ گنا} =$$

$$\dots \dots \dots 6 \text{ کا } 6 \text{ گنا} =$$

$$\dots \dots \dots 6 \text{ کا } 7 \text{ گنا} =$$

$$\dots \dots \dots 6 \text{ کا } 9 \text{ گنا} =$$

اس حاصل ضرب کو اس طرح سے بھی لکھا جاسکتا ہے:

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ۶ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۸ | ۵۴ | ۶۰ |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |

اب اسی طرح کی ضرب کا نیبل پیش کریں:

$$\angle = 1 \times \angle \quad \angle \text{ کا } 1 \text{ گنا}$$

$$12 = 2 \times \angle \quad \angle + \angle \text{ کا } 2 \text{ گنا}$$

$$18 = 3 \times \angle \quad \angle + \angle + \angle \text{ کا } 3 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 4 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 5 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 6 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 7 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 8 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 9 \text{ گنا}$$

$$\angle \text{ کا } 10 \text{ گنا}$$

● پچھلے ضرب کے ٹیبل کو دھیان میں رکھ کر نیچے دیے سوالوں کے جواب دیجیے:

- 1- چار ہفتوں کے کتنے دن ہوتے ہیں؟
- 2- ایک قلم کی قیمت ۷ روپے ہے تو ۶ قلم کی قیمت کتنی ہوگی؟
- 3- ایک بچہ ۸ عدد بیلوں خریدتا ہے۔ ہر بچہ برابر میں بیلوں خریدتا ہے۔ تو ۸ بچوں نے کل کتنے بیلوں خریدے۔

۸ کی ضرب کا ٹیبل:



$$\dots = \text{ایک مکڑے کے پیروں کی تعداد}$$

$$8+8+8 = \text{۳ عدد مکڑوں کے پیروں کی تعداد}$$

$$24=3\times 8=\text{۳۶ گنا}$$

اسی طرح نیچے کی فہرست خالی خانوں کو پر کیجیے:

$$1 \times 8 = 8 \quad 8$$

$$2 \times 8 = 16 \quad 8+8 = 16 \quad 8 \quad 8$$

$$3 \times 8 = 24 \quad 8+8+8 = 24 \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$


$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \quad 8$$

امجد نے ۸ کا پہاڑہ لکھ کر ٹیبل پر رکھا اور سو گیا۔ صحیح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر موجود اس کاغذ کو ڈیمک نے بر باد کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ڈیمک کی بگاڑی ہوئی جگہوں پر آپ صحیح صحیح جواب لکھ کر اسے جوڑ دیں تو امجد کا رونا بند ہو جائیے گا۔





اب کہیے:

- 1 ایک برتن میں 8 لیٹر دودھ آتا ہے تو اسی طرح کے 7 عدد برتن میں کتنا لیٹر دودھ آئے گا؟
- 2 ایک قمیض میں 8 عدد بٹن لگتے ہیں تو اسی طرح کی 5 عدقمیضوں میں کتنے بٹن کی ضرورت ہوگی؟
- 3 ایک قطار میں 8 عدد بچہ بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح کی 3 ریلوے قطاروں میں کتنے بچہ بیٹھیں گے؟

9 کی ضرب کا پہاڑہ

$$9 = \quad 1 \times 9 \quad 9 \quad 1 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$18 = \quad 2 \times 9 \quad 9+9 \quad 2 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$27 = \quad 3 \times 9 \quad 9+9+9 \quad 3 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 2 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 5 \text{ کا ۹ گنا}$$


$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 6 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 7 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 9 \text{ کا ۹ گنا}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 10 \text{ کا ۹ گنا}$$



● دل ہی دل حساب کر کے کہیے:

1۔ ۹ عدد مچھلیاں ہیں۔ ہر ایک مچھلی کے ۹ رنگوں کے کیسے جائیں تو کل کتنے رنگوں ہے ہوں گے؟

2۔ ایک بڑھتی کو ایک الماری تیار کرنے میں ۹ ردن لگتے تو اسی طرح کی ۷ عدد الماریاں تیار کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟

3۔ اگر ایک بستہ میں ۹ کیلو گرام چینی ہے تو اسی طرح کے ۳ عدد بستوں میں کتنا کیلو گرام چینی رہے گا؟

آورنگ بھریں:

نیچے کچھ کارڈوں پر ضرب کرنے کو کہا گیا ہے۔ جس کارڈ میں ہندسوں کا حاصل ضرب ۳۲ رہے اس کارڈ میں لال رنگ بھریں جس کا حاصل ضرب ۲۲ رہے اس میں نیلا بھریں۔ اور جس کا حاصل ضرب ۳۶ رہے اس میں سبز رنگ بھریں۔ اور باقی نیچے کارڈ میں کوئی رنگ نہ بھریں۔

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ۱×۱ | ۸×۲ | ۱×۳ | ۳×۸ | ۷×۳ |
| ۸×۳ | ۸×۷ | ۸×۳ | ۷×۳ | ۹×۳ |

1۔ کا ۱ گنا $1 \times 1 =$

2۔ کا ۲ گنا $2 \times 10 =$

3۔ کا ۳ گنا $3 \times 10 =$

4۔ کا ۴ گنا $4 \times 10 =$

5۔ کا ۵ گنا $5 \times 10 =$

6۔ کا ۶ گنا $6 \times 10 =$

7۔ کا ۷ گنا $7 \times 10 =$

8۔ کا ۸ گنا $8 \times 10 =$

9۔ کا ۹ گنا $9 \times 10 =$

10۔ کا ۱۰ گنا $10 \times 10 =$

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |

اب بتائیے:

(i) ایک قطار میں ۱۰ ارعد پودے لگے ہیں۔ تو ۵ قطار میں کتنے پودے لگیں گے؟

(ii) ایک قلم کی قیمت ۱۰ روپے ہے۔ اسی طرح کے ۸ قلموں کی قیمت کتنی ہوگی؟

(iii) ۷ ارعد برابر لمبائی والی چھڑیاں ہیں۔ ہر چھڑی کو برابر لمبائی کے حساب سے

۱۰ نکڑے کرنے پر کل کتنے نکڑے ہوں گے؟

(iv) ایک کار کے ۲ رپیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ۱۰ ارعد کاروں کے کتنے پیسے ہوں گے؟

خالی جگہوں کو پر کجھیے:

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ۶ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۰ | | | | | | |
| ۷ | ۱۳ | ۲۱ | ۲۰ | | | | | | |
| ۸ | ۱۶ | ۲۲ | ۳۲ | | | | | | |
| ۹ | ۱۸ | ۲۷ | ۳۶ | | | | | | |
| ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | | | | | | |

نیچے دیے ٹیبل میں پاس پاس کے دو خانوں میں موجود دو ہندسوں کا حاصل ضرب ٹیبل کے باہر موجود خانہ میں لکھیے:

| | | | | |
|----|----|---|----|----|
| | | | ۲۷ | |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۳۲ | ۸ | ۳ | ۹ | |
| | ۷ | ۶ | ۵ | ۳۰ |
| | ۵۶ | | | |

اسی طرح اور کوئی ٹیبل تیار کر کے اسے ۱۰ کے درمیان مختلف ہندسوں کی طرح حاصل ضرب معلوم کر کے خالی خانوں میں لکھیے۔ دیکھیں کون کتنا حاصل ضرب لکھ سکتا ہے۔



تو تے رانی کی دکان دیکھو
جو تے کیسے بچتی ہے دیکھو
بارہ چوہے اکٹھے ہو یہ
اپنے لیے جو تے اٹھائے
چھبیس چڑیاں آئیں
کتنے کتنے جو تے وہ لے جائیں گی ؟
جوتا خریدنے کے لیے نہایت بے چین
مکڑے تھے ایک سو سولہ
حساب کر کے بتاؤ پچ
کس نے کتنے جو تے خریدے ؟

۱۲

$3 \times$

ایک چوھا کے لیے $2/3$ ا عدد جو تے

$$2/3 \times 12 = 8$$

یہاں $12/12$ ہوا مضروب اور $8/8$ ہوا مضروب ہی

ضرب کا عمل دائیں طرف سے (مضروب اکائی کے مقام سے شروع ہوتا ہے۔

مضروب کا اکائی کے مقام کا ہندسہ مضروب ہی کے ذریعہ ضرب
 $12/12 \times 8/8 = 12/8$ حاصل ضرب میں اکائی کے مقام پر ہو گا۔

مضروب کے دہائی کے مقام کے ہندسے کو مضروفیہ کے ذریعہ ضرب
 $1/12 \times 3/3 = 3/12$ دہائی
حاصل ضرب میں دہائی کے مقام پر ۳ ہو گا۔

$$\begin{array}{r}
 12 \\
 \times 3 \\
 \hline
 38
 \end{array}$$

حاصل ضرب کے دہائی کے مقام پر ۲ را اور اکائی کے مقام پر ۸
 ۸ / ۳۸ = را کائی / دہائی



اب بتائیے چوہوں نے کتنے عدد جو تے خریدے
 • ایک چڑیا کے ۲ عدد جو تے

۲۶ × ۲۶ = عدد چڑیوں کے لیے جو توں کی ضرورت
 اس کا حاصل مضروب کتنا ہے۔

اس کا حاصل مضروب کتنا ہے مصروف بھیہ کتنا ہے
 مصروف بھیہ کے اکائی مقام کے ہندسے کے ساتھ مضروب کی ضرب
 ۶ / را کائی = ۱۲ / را کائی

$$\begin{array}{r}
 \text{دہائی} & \text{اکائی} \\
 2 & 6 \\
 \hline
 1 & 2 \\
 + 2 & \\
 \hline
 5 & 2
 \end{array}$$

۱۲ / را کائی کو ادھائی ۲ را کائی لکھا جا سکتا ہے
 حاصل ضرب کی اکائی کے مقام میں ۲ را اور دہائی کے مقام پر ار رہے گا۔

مصروف بھیہ کی دہائی کے مقام کے ہندسے سے ضرب:
 ۲ / را کائی × ۲ / را کائی = ۴ / را کائی

حاصل ضرب میں دہائی کے مقام کے نیچے ۴ / را رہے گا
 اب جمع کرنے سے حاصل جمع ۵۲ رہو گا۔ یعنی

$$52 = 2 \times 26$$

• ایک مکڑے کے لیے ۸ عدد جو تے
 ۱۶ / را کائی کے لیے کل جو توں کی ضرورت = ۱۶ × ۸ عدد جو تے



اس میں مضروب کتنا ہے؟
 اور مصروف بھیہ کتنا ہے؟

مضروب کی اکائی کے مقام کے ہندسے سے مصروف بھیہ کی ضرب
 ۶ / را کائی × ۸ / را کائی = ۴۸ / را کائی

۴۸ / را کائی کو ۲ را کائی لکھا جا سکتا ہے۔

حاصل ضرب میں دہائی کے مقام پر ۴ را اور اکائی کے مقام پر ۸ رہو گا

$$\begin{array}{r}
 & 1 & 1 & 2 \\
 & & 8 & \\
 \hline
 & 2 & 8 & \\
 & 8 & & \cdot \\
 \hline
 8 & & \cdot & \cdot \\
 \hline
 9 & 2 & 8
 \end{array} \times$$

مضروب کی دہائی کے مقام کے ہندسے مضروب بیہ کی ضرب:

$$\text{اردہائی} \times 8 = 8\text{اردہائی}$$

اس لیے حاصل ضرب میں دہائی کے مقام پر 8 رہ گا۔

مضروب کے سیکڑہ کے مقام پر ہندسے سے مضروب بیہ کا ضرب

$$\text{ارسیکڑہ} \times 8 = 8\text{ارسیکڑہ}$$

مختصر میں حاصل ضرب:

$$\begin{array}{r}
 & 1 & 1 & 2 \\
 & & 8 & \\
 \hline
 & 9 & 2 & 8
 \end{array} \times$$

حاصل ضرب میں سیکڑہ کے مقام پر 8 لکھا جائے گا۔

حاصل ضرب ہوا 928 ریکڑہ ارداہی را کائی یا 928 رہا۔

مکڑوں نے 928 رہ عدد جو تے خریدے۔

● مثال دیکھ کر خالی جگہوں کو پر کجھیں:

$$13 \times 10 = 130$$

$$27 \times 10 = 270$$

$$33 \times 10 = 330$$

$$61 \times 10 = \boxed{}$$

$$55 \times 10 = \boxed{}$$

$$78 \times 10 = \boxed{}$$

$$82 \times 10 = \boxed{}$$

$$100 \times 10 = \boxed{}$$

10 کے ذریعہ ضرب کیے جانے والے عداؤران کے حاصل ضرب کے درمیان فرق دیکھتے ہیں؟

جس عدد کو 10 کے ذریعہ ضرب کیا جائیے مضروب کے دائیں طرف ایک عدد صفر، لگانے سے اسکا حاصل ضرب معلوم ہو جاتا ہے۔

مشتق


1 - یوم آزادی کے موقع پر ایک اسکول میں ہر بچہ کو ۳ روپے دی جائیں گے؟ تو ۱۲۵ بچوں کو کتنے روپے دی جائیں گے؟

جواب:

$$\begin{array}{r}
 125 \\
 \times 3 \\
 \hline
 125
 \end{array}$$

ایک بچہ کو ۳ روپے
 $3 \times 125 = 375$

2 - کون تالہ کس چابی سے کھلے گا؟



3 - حاصل ضرب معلوم کیجیے:

$$\begin{array}{r}
 72 \\
 \times 2 \\
 \hline
 144
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 133 \\
 \times 4 \\
 \hline
 532
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 105 \\
 \times 3 \\
 \hline
 315
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 202 \\
 \times 2 \\
 \hline
 404
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 300 \\
 \times 2 \\
 \hline
 600
 \end{array}$$

4 - نیچے لکھے سوالات کو حل کیجیے:

(i) ۱۶ روپے کا ہار تیار کرنا ہے۔ ہر ہار میں ۸ روپے پھولوں کی ضرورت ہوگی؟

(ii) بھوپال شور سے کوراپٹ جانے کے لیے فی کس ریل کا کرایہ ۱۳۸ روپے ہے۔ ایک خاندان کے ۶ لوگ بھوپال شور سے کوراپٹ ریل سے گئے تو بتائیے کہ کتنے روپے ریل کرایہ کے طور پر دیے؟

(iii) قیام الدین بابو کے بسکٹ کے کارخانہ میں فی گھنٹہ ۱۶۰ رپا اور روٹیاں تیار ہوتی ہیں۔ تو ۲۶ گھنٹوں میں کتنی پا اور روٹیاں تیار ہوں گی؟


(iv) ہر ڈرے میں ۳۰ رعد دانڈے رہ سکتے ہیں تو اسی طرح ۹ رعد ڈرے میں کتنے دانڈے رہیں گے؟

(v) ایک سائزی کی قیمت ۷۳۰ روپے ہے تو اسی طرح کے ۳ رعد سائزیاں خریدنے پر کتنے روپے دینا پڑیں گے۔

(vi) ایک بیوپاری ہر کمرہ میں ۲۲۲ رعد تیل کی ٹین رکھتا ہے۔ تو وہ ۲۶ کمروں میں کتنی عد تیل کی ٹین رکھے گا؟

(vii) ایک فرائک کی قیمت ۵۸ روپے ہے عارف بابا سی طرح کے ۱۰ رعد فرائک خریدیں تو بتائیے کہ دکاندار کو انہوں نے کتنے روپے دیئے؟

5۔ پنجی کے ذریعہ ضرب:



اسی طرح 2×8 اور 8×2 کو نقشہ کے ذریعہ دکھایئے۔

